

## ARABIC VERB CONJUGATOR

عِبَدَ  
يَعْبُدُ

## Worship

VERBAL NOUN (MASDAR)

عِبَادَةٌ

عبادت کرنا

Root: ع ب د

PAST عَبَدَ اس نے عبادت کی	PRESENT يَعْبُدُ وہ عبادت کرتا ہے / عبادت کرے گا	MASDAR عِبَادَةٌ عبادت کرنا	ISM FA'IL عَابِدٌ عبادت کرنے والا	ISM MAFOOL مَعْبُودٌ جس کی عبادت کی گئی
----------------------------------	--	-----------------------------------	---	---

## PAST TENSE

الماضي

الضمير	الفعل	ضمير	ترجمہ
هُوَ	عَبَدَ	وہ (ایک مرد)	اس ایک مرد نے عبادت کی
هُمَا	عَبَدَا	وہ (دو مرد)	ان دو مردوں نے عبادت کی
هُمْ	عَبَدُوا	وہ (سب مرد)	ان سب مردوں نے عبادت کی
هِيَ	عَبَدَتْ	وہ (ایک عورت)	اس ایک عورت نے عبادت کی
هُمَا	عَبَدَتَا	وہ (دو عورتیں)	ان دو عورتوں نے عبادت کی
هُنَّ	عَبَدْنَ	وہ (سب عورتیں)	ان سب عورتوں نے عبادت کی
أَنْتَ	عَبَدْتَ	تم (ایک مرد)	تم ایک مرد نے عبادت کی
أَنْتُمَا	عَبَدْتُمَا	تم (دو مرد / عورتیں)	تم دونوں نے عبادت کی
أَنْتُمْ	عَبَدْتُمْ	تم (سب مرد)	تم سب مردوں نے عبادت کی
أَنْتِ	عَبَدْتِ	تم (ایک عورت)	تم ایک عورت نے عبادت کی
أَنْتُمَا	عَبَدْتُمَا	تم (دو عورتیں)	تم دونوں عورتوں نے عبادت کی
أَنْتُنَّ	عَبَدْتُنَّ	تم (سب عورتیں)	تم سب عورتوں نے عبادت کی
أَنَا	عَبَدْتُ	میں	میں نے عبادت کی
نَحْنُ	عَبَدْنَا	ہم	ہم نے عبادت کی

## PRESENT / FUTURE

المضارع

الضمير	الفعل	ضمير	ترجمہ
هُوَ	يَعْبُدُ	وہ (ایک مرد)	وہ ایک مرد عبادت کرتا ہے / عبادت کرے گا
هُمَا	يَعْبُدَانِ	وہ (دو مرد)	وہ دو مرد عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے

ترجمہ	ضمیر	الفعل	الضمیر
وہ سب مرد عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے	وہ (سب مرد)	يَعْبُدُونَ	هُمْ
وہ ایک عورت عبادت کرتی ہے / عبادت کرے گی	وہ (ایک عورت)	تَعْبُدُ	هِيَ
وہ دو عورتیں عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی	وہ (دو عورتیں)	تَعْبُدَانِ	هُمَا
وہ سب عورتیں عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی	وہ (سب عورتیں)	يَعْبُدْنَ	هُنَّ
تم ایک مرد عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تم (ایک مرد)	تَعْبُدُ	أَنْتَ
تم دونوں عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تم (دو مرد/ عورتیں)	تَعْبُدَانِ	أَنْتُمَا
تم سب مرد عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تم (سب مرد)	تَعْبُدُونَ	أَنْتُمْ
تم ایک عورت عبادت کرتی ہو / عبادت کرو گی	تم (ایک عورت)	تَعْبُدِينَ	أَنْتِ
تم دونوں عورتیں عبادت کرتی ہو / عبادت کرو گی	تم (دو عورتیں)	تَعْبُدَانِ	أَنْتُمَا
تم سب عورتیں عبادت کرتی ہو / عبادت کرو گی	تم (سب عورتیں)	تَعْبُدْنَ	أَنْتُنَّ
میں عبادت کرتا/ کرتی ہوں / عبادت کروں گا/ گی	میں	أَعْبُدُ	أَنَا
ہم عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے	ہم	نَعْبُدُ	نَحْنُ

## IMPERATIVE

## الأمر والنهي

POSITIVE	الأمر	NEGATIVE	النهي
الضمیر	الفعل	الضمیر	الفعل
تم عبادت کرو (مذکر واحد)	أَعْبُدْ	أَنْتَ	لَا تَعْبُدْ
تم دونوں عبادت کرو	أَعْبُدَا	أَنْتُمَا	لَا تَعْبُدَا
تم سب عبادت کرو (مذکر جمع)	أَعْبُدُوا	أَنْتُمْ	لَا تَعْبُدُوا
تم عبادت کرو (مؤنث واحد)	أَعْبُدِي	أَنْتِ	لَا تَعْبُدِي
تم دونوں عبادت کرو (مؤنث)	أَعْبُدَا	أَنْتُمَا	لَا تَعْبُدَا
تم سب عبادت کرو (مؤنث جمع)	أَعْبُدْنَ	أَنْتُنَّ	لَا تَعْبُدْنَ

## الجدول الإسنادي — الماضي

## RELATIONAL MAPPING — PAST

هو	وہ (ایک مرد)	
نِي	عَبْدِي	اس نے مجھے عبادت کی
نَا	عَبْدَنَا	اس نے ہمیں عبادت کی
كَ	عَبْدَكَ	اس نے تمہیں (ایک مرد) عبادت کی
كُمَا	عَبْدَكُمَا	اس نے تم دونوں کو عبادت کی
كُم	عَبْدَكُم	اس نے تم سب (مردوں) کو عبادت کی
كَ	عَبْدَكَ	اس نے تمہیں (ایک عورت) عبادت کی
كُنَّ	عَبْدَكُنَّ	اس نے تم سب (عورتوں) کو عبادت کی
ه	عَبْدَهُ	اس نے اسے (ایک مرد) عبادت کی
هُمَا	عَبْدَهُمَا	اس نے ان دونوں کو عبادت کی
هُمْ	عَبْدَهُمْ	اس نے ان سب (مردوں) کو عبادت کی
هَا	عَبْدَهَا	اس نے اسے (ایک عورت) عبادت کی
هُمَا	عَبْدَهُمَا	اس نے ان دونوں عورتوں کو عبادت کی
هِنَّ	عَبْدَهُنَّ	اس نے ان سب (عورتوں) کو عبادت کی

ہیما (مذکر)	وہ (دو مرد)	
نِي	عَبْدَانِي	ان دو مردوں نے مجھے عبادت کی
نَا	عَبْدَانَا	ان دو مردوں نے ہمیں عبادت کی
كَ	عَبْدَاكَ	ان دو مردوں نے تمہیں (ایک مرد) عبادت کی
كُمَا	عَبْدَاكُمَا	ان دو مردوں نے تم دونوں کو عبادت کی
كُم	عَبْدَاكُم	ان دو مردوں نے تم سب (مردوں) کو عبادت کی
كَ	عَبْدَاكَ	ان دو مردوں نے تمہیں (ایک عورت) عبادت کی
كُنَّ	عَبْدَاكُنَّ	ان دو مردوں نے تم سب (عورتوں) کو عبادت کی
ه	عَبْدَاهُ	ان دو مردوں نے اسے (ایک مرد) عبادت کی
هُمَا	عَبْدَاهُمَا	ان دو مردوں نے ان دونوں کو عبادت کی
هُمْ	عَبْدَاهُمْ	ان دو مردوں نے ان سب (مردوں) کو عبادت کی
هَا	عَبْدَاهَا	ان دو مردوں نے اسے (ایک عورت) عبادت کی
هِنَّ	عَبْدَاهُنَّ	ان دو مردوں نے ان سب (عورتوں) کو عبادت کی

وہ (سب مرد)		ہم
ان سب مردوں نے مجھے عبادت کی	عِبْدُوْنِي	نِي
ان سب مردوں نے ہمیں عبادت کی	عِبْدُوْنَا	نَا
ان سب مردوں نے تمہیں (ایک مرد) عبادت کی	عِبْدُوْكَ	كَ
ان سب مردوں نے تم دونوں کو عبادت کی	عِبْدُوْكُمْ	كُمْ
ان سب مردوں نے تم سب (مردوں) کو عبادت کی	عِبْدُوْكُمْ	كُمْ
ان سب مردوں نے تمہیں (ایک عورت) عبادت کی	عِبْدُوْكَ	كَ
ان سب مردوں نے تم سب (عورتوں) کو عبادت کی	عِبْدُوْكُمْ	كُمْ
ان سب مردوں نے اسے (ایک مرد) عبادت کی	عِبْدُوْهُ	هُ
ان سب مردوں نے ان دونوں کو عبادت کی	عِبْدُوْهُمَا	هُمَا
ان سب مردوں نے ان سب (مردوں) کو عبادت کی	عِبْدُوْهُمْ	هُمْ
ان سب مردوں نے اسے (ایک عورت) عبادت کی	عِبْدُوْهَا	هَا
ان سب مردوں نے ان سب (عورتوں) کو عبادت کی	عِبْدُوْهُنَّ	هُنَّ

وہ (ایک عورت)		ہی
اس ایک عورت نے مجھے عبادت کی	عِبْدَتْنِي	نِي
اس ایک عورت نے ہمیں عبادت کی	عِبْدَتْنَا	نَا
اس ایک عورت نے تمہیں (ایک مرد) عبادت کی	عِبْدَتْكَ	كَ
اس ایک عورت نے تم دونوں کو عبادت کی	عِبْدَتْكُمْ	كُمْ
اس ایک عورت نے تم سب (مردوں) کو عبادت کی	عِبْدَتْكُمْ	كُمْ
اس ایک عورت نے تمہیں (ایک عورت) عبادت کی	عِبْدَتْكَ	كَ
اس ایک عورت نے تم سب (عورتوں) کو عبادت کی	عِبْدَتْكُمْ	كُمْ
اس ایک عورت نے اسے (ایک مرد) عبادت کی	عِبْدَتْهُ	هُ
اس ایک عورت نے ان دونوں کو عبادت کی	عِبْدَتْهُمَا	هُمَا
اس ایک عورت نے ان سب (مردوں) کو عبادت کی	عِبْدَتْهُمْ	هُمْ
اس ایک عورت نے اسے (ایک عورت) عبادت کی	عِبْدَتْهَا	هَا
اس ایک عورت نے ان سب (عورتوں) کو عبادت کی	عِبْدَتْهُنَّ	هُنَّ

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	عِبَدَاتِنِی	ان دو عورتوں نے مجھے عبادت کی
نَا	عِبَدَاتَنَا	ان دو عورتوں نے ہمیں عبادت کی
ک	عِبَدَاتِكَ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) عبادت کی
کَا	عِبَدَاتِکَا	ان دو عورتوں نے تم دونوں کو عبادت کی
کُم	عِبَدَاتِکُمْ	ان دو عورتوں نے تم سب (مردوں) کو عبادت کی
ک	عِبَدَاتِکَ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) عبادت کی
کُنَّ	عِبَدَاتِکُنَّ	ان دو عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو عبادت کی
ہ	عِبَدَاتُہ	ان دو عورتوں نے اسے (ایک مرد) عبادت کی
ہمَا	عِبَدَاتُهُمَا	ان دو عورتوں نے ان دونوں کو عبادت کی
ہم	عِبَدَاتُهُم	ان دو عورتوں نے ان سب (مردوں) کو عبادت کی
ہَا	عِبَدَاتِہَا	ان دو عورتوں نے اسے (ایک عورت) عبادت کی
ہنَّ	عِبَدَاتِہُنَّ	ان دو عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو عبادت کی

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	عِبَدَاتِنِی	ان سب عورتوں نے مجھے عبادت کی
نَا	عِبَدَاتَنَا	ان سب عورتوں نے ہمیں عبادت کی
ک	عِبَدَاتِکَ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) عبادت کی
کَا	عِبَدَاتِکَا	ان سب عورتوں نے تم دونوں کو عبادت کی
کُم	عِبَدَاتِکُمْ	ان سب عورتوں نے تم سب (مردوں) کو عبادت کی
ک	عِبَدَاتِکَ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) عبادت کی
کُنَّ	عِبَدَاتِکُنَّ	ان سب عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو عبادت کی
ہ	عِبَدَاتُہ	ان سب عورتوں نے اسے (ایک مرد) عبادت کی
ہمَا	عِبَدَاتُهُمَا	ان سب عورتوں نے ان دونوں کو عبادت کی
ہم	عِبَدَاتُهُم	ان سب عورتوں نے ان سب (مردوں) کو عبادت کی
ہَا	عِبَدَاتِہَا	ان سب عورتوں نے اسے (ایک عورت) عبادت کی
ہنَّ	عِبَدَاتِہُنَّ	ان سب عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو عبادت کی

اَنْتَ	تم (ایک مرد)	
نِی	عِبَدْتِنِی	تم (ایک مرد) نے مجھے عبادت کی
نَا	عِبَدْتِنَا	تم (ایک مرد) نے ہمیں عبادت کی
هُ	عِبَدْتَهُ	تم (ایک مرد) نے اسے (ایک مرد) عبادت کی
هُمَا	عِبَدْتَهُمَا	تم (ایک مرد) نے ان دونوں کو عبادت کی
هُمْ	عِبَدْتَهُمْ	تم (ایک مرد) نے ان سب (مردوں) کو عبادت کی
هَا	عِبَدْتَهَا	تم (ایک مرد) نے اسے (ایک عورت) عبادت کی
هِنَّ	عِبَدْتَهُنَّ	تم (ایک مرد) نے ان سب (عورتوں) کو عبادت کی

اَنْتُمَا	تم دونوں (مرد/عورت)	
نِی	عِبَدْتُمَا نِی	تم دونوں نے مجھے عبادت کی
نَا	عِبَدْتُمَا نَا	تم دونوں نے ہمیں عبادت کی
هُ	عِبَدْتُمَا هُوَ	تم دونوں نے اسے (ایک مرد) عبادت کی
هُمَا	عِبَدْتُمَا هُمَا	تم دونوں نے ان دونوں کو عبادت کی
هُمْ	عِبَدْتُمَا هُمْ	تم دونوں نے ان سب (مردوں) کو عبادت کی
هَا	عِبَدْتُمَا هَا	تم دونوں نے اسے (ایک عورت) عبادت کی
هِنَّ	عِبَدْتُمَا هِنَّ	تم دونوں نے ان سب (عورتوں) کو عبادت کی

اَنْتُمْ	تم سب (مرد)	
نِی	عِبَدْتُمْوَنِی	تم سب (مردوں) نے مجھے عبادت کی
نَا	عِبَدْتُمْوَنَا	تم سب (مردوں) نے ہمیں عبادت کی
هُ	عِبَدْتُمْوَهُ	تم سب (مردوں) نے اسے (ایک مرد) عبادت کی
هُمَا	عِبَدْتُمْوَهُمَا	تم سب (مردوں) نے ان دونوں کو عبادت کی
هُمْ	عِبَدْتُمْوَهُمْ	تم سب (مردوں) نے ان سب (مردوں) کو عبادت کی
هَا	عِبَدْتُمْوَهَا	تم سب (مردوں) نے اسے (ایک عورت) عبادت کی
هِنَّ	عِبَدْتُمْوَهُنَّ	تم سب (مردوں) نے ان سب (عورتوں) کو عبادت کی

اَنْتِ	تم (ایک عورت)	
نِی	عِبَدْتِنِی	تم (ایک عورت) نے مجھے عبادت کی
نَا	عِبَدْتِنَا	تم (ایک عورت) نے ہمیں عبادت کی
هُ	عِبَدْتَهُ	تم (ایک عورت) نے اسے (ایک مرد) عبادت کی
هُمَا	عِبَدْتَهُمَا	تم (ایک عورت) نے ان دونوں کو عبادت کی
هُمْ	عِبَدْتَهُمْ	تم (ایک عورت) نے ان سب (مردوں) کو عبادت کی
هَا	عِبَدْتَهَا	تم (ایک عورت) نے اسے (ایک عورت) عبادت کی
هِنَّ	عِبَدْتَهُنَّ	تم (ایک عورت) نے ان سب (عورتوں) کو عبادت کی

انتن	تم سب (عورتیں)	ان	میں
نِی	عَبَدْتُنِی	ک	میں نے تمہیں (ایک مرد) عبادت کی
نَا	عَبَدْتُنَا	کَا	میں نے تم دونوں کو عبادت کی
ہ	عَبَدْتُہ	کُہ	میں نے تم سب (مردوں) کو عبادت کی
ہمَا	عَبَدْتُہمَا	ک	میں نے تمہیں (ایک عورت) عبادت کی
ہم	عَبَدْتُہم	کُن	میں نے تم سب (عورتوں) کو عبادت کی
ہم	عَبَدْتُہم	ہ	میں نے اسے (ایک مرد) عبادت کی
ہَا	عَبَدْتُہَا	ہمَا	میں نے ان دونوں کو عبادت کی
ہن	عَبَدْتُہن	ہم	میں نے ان سب (مردوں) کو عبادت کی
ہن	عَبَدْتُہن	ہَا	میں نے اسے (ایک عورت) عبادت کی
ہن	عَبَدْتُہن	ہن	میں نے ان سب (عورتوں) کو عبادت کی

تحن	ہم
ک	عَبَدْنَاک
کَا	عَبَدْنَاکَا
کُہ	عَبَدْنَاکُہ
ک	عَبَدْنَاک
کُن	عَبَدْنَاکُن
ہ	عَبَدْنَاہ
ہمَا	عَبَدْنَاہمَا
ہم	عَبَدْنَاہم
ہَا	عَبَدْنَاہَا
ہن	عَبَدْنَاہن

## الجدول الإسنادي — المضارع

## RELATIONAL MAPPING — PRESENT

هو		وه (ایک مرد)
نِي	يَعْبُدُنِي	وہ مجھے عبادت کرتا ہے / عبادت کرے گا
نَا	يَعْبُدُنَا	وہ ہمیں عبادت کرتا ہے / عبادت کرے گا
كَ	يَعْبُدُكَ	وہ تمہیں (ایک مرد) عبادت کرتا ہے / عبادت کرے گا
كُمَا	يَعْبُدُكُمَا	وہ تم دونوں کو عبادت کرتا ہے / عبادت کرے گا
كُم	يَعْبُدُكُمْ	وہ تم سب (مردوں) کو عبادت کرتا ہے / عبادت کرے گا
كَ	يَعْبُدُكَ	وہ تمہیں (ایک عورت) عبادت کرتا ہے / عبادت کرے گا
كُنَّ	يَعْبُدُكُنَّ	وہ تم سب (عورتوں) کو عبادت کرتا ہے / عبادت کرے گا
ه	يَعْبُدُهُ	وہ اسے (ایک مرد) عبادت کرتا ہے / عبادت کرے گا
هُمَا	يَعْبُدُهُمَا	وہ ان دونوں کو عبادت کرتا ہے / عبادت کرے گا
هُمْ	يَعْبُدُهُمْ	وہ ان سب (مردوں) کو عبادت کرتا ہے / عبادت کرے گا
هَا	يَعْبُدُهَا	وہ اسے (ایک عورت) عبادت کرتا ہے / عبادت کرے گا
هُمَا	يَعْبُدُهُمَا	وہ ان دونوں عورتوں کو عبادت کرتا ہے / عبادت کرے گا
هِنَّ	يَعْبُدُهُنَّ	وہ ان سب (عورتوں) کو عبادت کرتا ہے / عبادت کرے گا

هيأ (مذكر)		وه (دو مرد)
نِي	يَعْبُدَانِي	وہ دو مرد مجھے عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
نَا	يَعْبُدَانَا	وہ دو مرد ہمیں عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
كَ	يَعْبُدَاكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک مرد) عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
كُمَا	يَعْبُدَاكُمَا	وہ دو مرد تم دونوں کو عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
كُم	يَعْبُدَاكُمْ	وہ دو مرد تم سب (مردوں) کو عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
كَ	يَعْبُدَاكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک عورت) عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
كُنَّ	يَعْبُدَاكُنَّ	وہ دو مرد تم سب (عورتوں) کو عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
ه	يَعْبُدَاهُ	وہ دو مرد اسے (ایک مرد) عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
هُمَا	يَعْبُدَاهُمَا	وہ دو مرد ان دونوں کو عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
هُمْ	يَعْبُدَاهُمْ	وہ دو مرد ان سب (مردوں) کو عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
هَا	يَعْبُدَاهَا	وہ دو مرد اسے (ایک عورت) عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
هِنَّ	يَعْبُدَاھِنَّ	وہ دو مرد ان سب (عورتوں) کو عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے

وہ (سب مرد)		
نِی	یَعْبُدُونِی	وہ سب مرد مجھے عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
نَا	یَعْبُدُونَا	وہ سب مرد ہمیں عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
کَ	یَعْبُدُوكَ	وہ سب مرد تمہیں (ایک مرد) عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
کَمَا	یَعْبُدُوكَمَا	وہ سب مرد تم دونوں کو عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
کُمْ	یَعْبُدُوكُمْ	وہ سب مرد تم سب (مردوں) کو عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
کَ	یَعْبُدُوكَ	وہ سب مرد تمہیں (ایک عورت) عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
کُنَّ	یَعْبُدُوكُنَّ	وہ سب مرد تم سب (عورتوں) کو عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
ہُ	یَعْبُدُوهُ	وہ سب مرد اسے (ایک مرد) عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
ہُمَا	یَعْبُدُوهُمَا	وہ سب مرد ان دونوں کو عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
ہُمْ	یَعْبُدُوهُمْ	وہ سب مرد ان سب (مردوں) کو عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
ہَا	یَعْبُدُوهَا	وہ سب مرد اسے (ایک عورت) عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
ہُنَّ	یَعْبُدُوهُنَّ	وہ سب مرد ان سب (عورتوں) کو عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے

وہ (ایک عورت)		
نِی	تَعْبُدُنِی	وہ ایک عورت مجھے عبادت کرتی ہے / عبادت کرے گی
نَا	تَعْبُدُنَا	وہ ایک عورت ہمیں عبادت کرتی ہے / عبادت کرے گی
کَ	تَعْبُدُوكَ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک مرد) عبادت کرتی ہے / عبادت کرے گی
کَمَا	تَعْبُدُوكَمَا	وہ ایک عورت تم دونوں کو عبادت کرتی ہے / عبادت کرے گی
کُمْ	تَعْبُدُوكُمْ	وہ ایک عورت تم سب (مردوں) کو عبادت کرتی ہے / عبادت کرے گی
کَ	تَعْبُدُوكَ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک عورت) عبادت کرتی ہے / عبادت کرے گی
کُنَّ	تَعْبُدُوكُنَّ	وہ ایک عورت تم سب (عورتوں) کو عبادت کرتی ہے / عبادت کرے گی
ہُ	تَعْبُدُوهُ	وہ ایک عورت اسے (ایک مرد) عبادت کرتی ہے / عبادت کرے گی
ہُمَا	تَعْبُدُوهُمَا	وہ ایک عورت ان دونوں کو عبادت کرتی ہے / عبادت کرے گی
ہُمْ	تَعْبُدُوهُمْ	وہ ایک عورت ان سب (مردوں) کو عبادت کرتی ہے / عبادت کرے گی
ہَا	تَعْبُدُوهَا	وہ ایک عورت اسے (ایک عورت) عبادت کرتی ہے / عبادت کرے گی
ہُنَّ	تَعْبُدُوهُنَّ	وہ ایک عورت ان سب (عورتوں) کو عبادت کرتی ہے / عبادت کرے گی

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	تَعْبُدَانِی	وہ دو عورتیں مجھے عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
نَا	تَعْبُدَانَا	وہ دو عورتیں ہمیں عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
ک	تَعْبُدَاکَ	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک مرد) عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
کَا	تَعْبُدَاکَا	وہ دو عورتیں تم دونوں کو عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
کُم	تَعْبُدَاکُم	وہ دو عورتیں تم سب (مردوں) کو عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
کِک	تَعْبُدَاکِک	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک عورت) عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
کُنَّ	تَعْبُدَاکُنَّ	وہ دو عورتیں تم سب (عورتوں) کو عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
ہ	تَعْبُدَاهُ	وہ دو عورتیں اسے (ایک مرد) عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
ہمَا	تَعْبُدَاهُمَا	وہ دو عورتیں ان دونوں کو عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
ہم	تَعْبُدَاهُم	وہ دو عورتیں ان سب (مردوں) کو عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
ہَا	تَعْبُدَاهَا	وہ دو عورتیں اسے (ایک عورت) عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
ہنَّ	تَعْبُدَاهُنَّ	وہ دو عورتیں ان سب (عورتوں) کو عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	یَعْبُدَانِی	وہ سب عورتیں مجھے عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
نَا	یَعْبُدَانَا	وہ سب عورتیں ہمیں عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
ک	یَعْبُدَاکَ	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک مرد) عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
کَا	یَعْبُدَاکَا	وہ سب عورتیں تم دونوں کو عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
کُم	یَعْبُدَاکُم	وہ سب عورتیں تم سب (مردوں) کو عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
کِک	یَعْبُدَاکِک	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک عورت) عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
کُنَّ	یَعْبُدَاکُنَّ	وہ سب عورتیں تم سب (عورتوں) کو عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
ہ	یَعْبُدَاهُ	وہ سب عورتیں اسے (ایک مرد) عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
ہمَا	یَعْبُدَاهُمَا	وہ سب عورتیں ان دونوں کو عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
ہم	یَعْبُدَاهُم	وہ سب عورتیں ان سب (مردوں) کو عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
ہَا	یَعْبُدَاهَا	وہ سب عورتیں اسے (ایک عورت) عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی
ہنَّ	یَعْبُدَاهُنَّ	وہ سب عورتیں ان سب (عورتوں) کو عبادت کرتی ہیں / عبادت کریں گی

تم (ایک مرد)	أَنْتَ	تم دونوں (مرد/عورت)	أَنْتُمَا
تم (ایک مرد) مجھے عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدُنِي	تم دونوں مجھے عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدَانِي
تم (ایک مرد) ہمیں عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدُنَا	تم دونوں ہمیں عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدَانَا
تم (ایک مرد) اسے (ایک مرد) عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدُهُ	تم دونوں اسے (ایک مرد) عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدَاهُ
تم (ایک مرد) ان دونوں کو عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدُهُمَا	تم دونوں ان دونوں کو عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدَاهُمَا
تم (ایک مرد) ان سب (مردوں) کو عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدُهُمْ	تم دونوں ان سب (مردوں) کو عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدَاهُمْ
تم (ایک مرد) اسے (ایک عورت) عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدُهَا	تم دونوں اسے (ایک عورت) عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدَاهَا
تم (ایک مرد) ان سب (عورتوں) کو عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدُهُنَّ	تم دونوں ان سب (عورتوں) کو عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدَاهُنَّ

تم سب (مرد)	أَنْتُمْ	تم (ایک عورت)	أَنْتِ
تم سب (مرد) مجھے عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدُونِي	تم (ایک عورت) مجھے عبادت کرتی ہو / عبادت کرو گی	تَعْبُدِينِي
تم سب (مرد) ہمیں عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدُونَا	تم (ایک عورت) ہمیں عبادت کرتی ہو / عبادت کرو گی	تَعْبُدِينَا
تم سب (مرد) اسے (ایک مرد) عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدُونَهُ	تم (ایک عورت) اسے (ایک مرد) عبادت کرتی ہو / عبادت کرو گی	تَعْبُدِينَهُ
تم سب (مرد) ان دونوں کو عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدُونَهُمَا	تم (ایک عورت) ان دونوں کو عبادت کرتی ہو / عبادت کرو گی	تَعْبُدِينَهُمَا
تم سب (مرد) ان سب (مردوں) کو عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدُونَهُمْ	تم (ایک عورت) ان سب (مردوں) کو عبادت کرتی ہو / عبادت کرو گی	تَعْبُدِينَهُمْ
تم سب (مرد) اسے (ایک عورت) عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدُونَهَا	تم (ایک عورت) اسے (ایک عورت) عبادت کرتی ہو / عبادت کرو گی	تَعْبُدِينَهَا
تم سب (مرد) ان سب (عورتوں) کو عبادت کرتے ہو / عبادت کرو گے	تَعْبُدُونَهُنَّ	تم (ایک عورت) ان سب (عورتوں) کو عبادت کرتی ہو / عبادت کرو گی	تَعْبُدِينَهُنَّ

انتم	تم سب (عورتیں)	اننا	میں
نِي	تَعْبُدُنِي تم سب (عورتیں) مجھے عبادت کرتی ہو / عبادت کرو گی	كَ	میں تمہیں (ایک مرد) عبادت کرتا / کرتی ہوں / عبادت کروں گا / گی
نَا	تَعْبُدُنَا تم سب (عورتیں) ہمیں عبادت کرتی ہو / عبادت کرو گی	كَمَا	میں تم دونوں کو عبادت کرتا / کرتی ہوں / عبادت کروں گا / گی
هُ	تَعْبُدُنْهُ تم سب (عورتیں) اسے (ایک مرد) عبادت کرتی ہو / عبادت کرو گی	كُمُ	میں تم سب (مردوں) کو عبادت کرتا / کرتی ہوں / عبادت کروں گا / گی
هُمَا	تَعْبُدُهُمَا تم سب (عورتیں) ان دونوں کو عبادت کرتی ہو / عبادت کرو گی	كِ	میں تمہیں (ایک عورت) کو عبادت کرتا / کرتی ہوں / عبادت کروں گا / گی
هُمْ	تَعْبُدُهُمْ تم سب (عورتیں) ان سب (مردوں) کو عبادت کرتی ہو / عبادت کرو گی	كُنَّ	میں تم سب (عورتوں) کو عبادت کرتا / کرتی ہوں / عبادت کروں گا / گی
هَا	تَعْبُدْنَهَا تم سب (عورتیں) اسے (ایک عورت) عبادت کرتی ہو / عبادت کرو گی	هُ	میں اسے (ایک مرد) عبادت کرتا / کرتی ہوں / عبادت کروں گا / گی
هِنَّ	تَعْبُدْنَهُنَّ تم سب (عورتیں) ان سب (عورتوں) کو عبادت کرتی ہو / عبادت کرو گی	هُمَا	میں ان دونوں کو عبادت کرتا / کرتی ہوں / عبادت کروں گا / گی
		هُمْ	میں ان سب (مردوں) کو عبادت کرتا / کرتی ہوں / عبادت کروں گا / گی
		هَا	میں اسے (ایک عورت) کو عبادت کرتا / کرتی ہوں / عبادت کروں گا / گی
		هِنَّ	میں ان سب (عورتوں) کو عبادت کرتا / کرتی ہوں / عبادت کروں گا / گی

نَحْنُ	ہم
كَ	نَعْبُدُكَ / ہم تمہیں (ایک مرد) عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
كُمَا	نَعْبُدُكُمَا / ہم تم دونوں کو عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
كُمُ	نَعْبُدُكُمُ / ہم تم سب (مردوں) کو عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
كِ	نَعْبُدُكِ / ہم تمہیں (ایک عورت) عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
كُنَّ	نَعْبُدُكُنَّ / ہم تم سب (عورتوں) کو عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
هُ	نَعْبُدُهُ / ہم اسے (ایک مرد) عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
هُمَا	نَعْبُدُهُمَا / ہم ان دونوں کو عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
هُمْ	نَعْبُدُهُمْ / ہم ان سب (مردوں) کو عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
هَا	نَعْبُدُهَا / ہم اسے (ایک عورت) عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے
هِنَّ	نَعْبُدُهُنَّ / ہم ان سب (عورتوں) کو عبادت کرتے ہیں / عبادت کریں گے

## USAGE EXAMPLES — PAST

## مثالیں — ماضی

I

أَنَا عَبَدْتُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَمْ أُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا.  
میں نے صرف اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کچھ شریک نہیں کیا۔

I worshipped Allah alone and did not associate anything with Him.

We

نَحْنُ عَبَدْنَا اللَّهَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ.  
ہم نے نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کی عبادت کی۔

We worshipped Allah through prayer, fasting, and zakat.

You (m)

أَنْتَ عَبَدْتَ اللَّهَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِجِدِّ وَاجْتِهَادٍ.  
تم نے رمضان المبارک میں محنت اور جدوجہد سے اللہ کی عبادت کی۔

You worshipped Allah in Ramadan with diligence and striving.

You (f)

أَنْتِ عَبَدْتَ اللَّهَ بِإِخْلَاصٍ تَامٍّ طَوَالَ حَيَاتِكَ.  
تم نے اپنی پوری زندگی مکمل اخلاص سے اللہ کی عبادت کی۔

You (f) worshipped Allah with complete sincerity throughout your life.

He

هُوَ عَبَدَ اللَّهَ فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ بِتَقْوَىٰ وَإِخْلَاصٍ.  
اس نے تقویٰ اور اخلاص کے ساتھ چھپ کر اور ظاہر میں اللہ کی عبادت کی۔

He worshipped Allah in private and in public with piety and sincerity.

She

هِيَ عَبَدَتْ اللَّهَ حَتَّىٰ فِي أَصْعَبِ الْأَوْقَاتِ.  
اس نے سب سے مشکل اوقات میں بھی اللہ کی عبادت کی۔

She worshipped Allah even in the most difficult of times.

They two

هُمَا عَبَدَا اللَّهَ مَعًا وَتَعَاوَنَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.

ان دونوں نے مل کر اللہ کی عبادت کی اور نیکی و تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کی۔

They two worshipped Allah together and cooperated in righteousness and piety.

They (m)

هُمْ عَبَدُوا اللَّهَ مَعًا فِي الْمَسْجِدِ بِخُشُوعٍ.

انہوں نے مسجد میں مل کر خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کی۔

They worshipped Allah together in the mosque with humility.

You all (m)

أَنْتُمْ عَبَدْتُمْ اللَّهَ فِي الْحَجِّ بِشَوْقٍ وَإِخْلَاصٍ.

تم سب نے حج میں شوق اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی۔

You all worshipped Allah during Hajj with eagerness and sincerity.

They (f)

هُنَّ عَبَدْنَ اللَّهَ وَأَخْلَصْنَ لَهُ الدِّينَ كُلَّهُ.

انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور پوری طرح اسی کے لیے دین کو خالص رکھا۔

They (f) worshipped Allah and made their entire religion purely for Him.

## USAGE EXAMPLES — PRESENT

## مثالیں — مضارع

I

أَنَا أَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا.

میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

I worship Allah alone and do not associate anyone with Him.

We

نَحْنُ نَعْبُدُ اللَّهَ وَنَسْتَعِينُ بِهِ فِي كُلِّ أَمْرِنَا.

ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے تمام معاملات میں اسی سے مدد مانگتے ہیں۔

We worship Allah and seek His help in all our affairs.

You (m)

أَنْتَ تَعْبُدُ اللَّهَ بِإِخْلَاصٍ وَصِدْقٍ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ.

تم ہر عبادت میں اخلاص اور سچائی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہو۔

You worship Allah with sincerity and truthfulness in every act of worship.

You (f)

أَنْتِ تَعْبُدِينَ اللَّهَ وَتَتَقَرَّبِينَ إِلَيْهِ بِالطَّاعَاتِ.

تم اللہ کی عبادت کرتی ہو اور اطاعت سے اس کی قربت حاصل کرتی ہو۔

You (f) worship Allah and draw closer to Him through acts of obedience.

He

هُوَ يَعْبُدُ اللَّهَ بِصِدْقٍ وَيَتَّبِعُ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ.

وہ سچائی سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نبی ﷺ کی سنت کی پیروی کرتا ہے۔

He worships Allah sincerely and follows the Sunnah of the Prophet ﷺ.

She

هِيَ تَعْبُدُ اللَّهَ فِي السِّرِّ أَكْثَرَ مِمَّا تَعْبُدُهُ فِي الْعَلَنِ.

وہ اعلانیہ عبادت سے زیادہ پوشیدہ طریقے سے اللہ کی عبادت کرتی ہے۔

She worships Allah in private more than she does in public.

They two

هُمَا يَعْبُدَانِ اللَّهَ وَيُعَلِّمَانِ أَبْنَاءَهُمَا الْعِبَادَةَ.

وہ دونوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو عبادت سکھاتے ہیں۔

They two worship Allah and teach their children worship.

They (m)

هُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَيَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ.

وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔

They worship Allah and call people to Islam.

You all (m)

أَنْتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ وَتَقِيمُونَ الصَّلَاةَ فِي أَوْقَاتِهَا.

تم سب اللہ کی عبادت کرتے ہو اور وقت پر نماز قائم کرتے ہو۔

You all worship Allah and establish prayer at its proper times.

They (f)

هُنَّ يَعْبُدْنَ اللَّهَ وَيُرَبِّينَ أَبْنَاءَهُنَّ عَلَى الْإِيمَانِ.

وہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور اپنے بچوں کی ایمان پر پرورش کرتی ہیں۔

They (f) worship Allah and raise their children upon faith.

## VOCABULARY

## المفردات

الْعِبَادَةُ

عبادت

worship / devotion

الْمَعْبُودُ

معبود (جس کی عبادت کی جائے)

the one worshipped

الْعَبْدُ

بندہ / غلام

slave / servant of Allah

الْإِخْلَاصُ

اخلاص

sincerity / devotion

التَّوْحِيدُ

توحید

monotheism / oneness of Allah

الشِّرْكَ

شُرک

polytheism / associating partners with Allah

الطَّاعَةُ

اطاعت

obedience

التَّقْوَى

تقوی

piety / God-consciousness

الصِّيَامُ

روزہ

fasting

الزَّكَاةُ

زکوٰۃ

obligatory alms

الْحَجُّ

حج

pilgrimage

الْإِيْمَانُ

ایمان

faith / belief

السُّنَّةُ

سنت

Prophetic tradition

الْإِسْلَامُ

اسلام

Islam

الرَّبُّ

رب (پالنے والا)

the Lord / Sustainer